

میں اونٹیریو کی گرین پارٹی کا لیڈر اور گوالف کی ایم پی پی کا امیدوار مائیک شریئر ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ گوالف اونٹیریو کو کلین اکانومی کی طرف گامزن کر سکتا ہے تا کہ ہم لوگوں اور اس سیارے کو اولیت دینے والی ملازمتیں تخلیق کر سکیں۔ میں گوالف کا چیمپین بنوں گا۔ ہم سب کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے اور میں آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک خوشحال اور رہنے کے لائق مستقبل کے لیے جدوجہد کروں گا۔

یہ مستقبل میں داخل ہونے کا وقت ہے۔ گرین پارٹی اونٹیریو کے پاس ابھرتی ہوئی کلین اکانومی میں مواقع حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں اور جگہوں، جن سے ہم پیار کرتے ہیں کے تحفظ کے لیے ایک مربوط نائن پوائنٹ پلیٹ فارم موجود ہے۔ ہم جدید دور کے تقاضوں پر پورا اتریں گے۔ ہم ہاؤسنگ، ذہنی صحت اور ماحولیاتی بحران سے نکلنے کے لیے بہترین عوامی خدمات اور مسائل کے جدید حل کی سپورٹ کریں گے۔ ہم دیانتداری سے آپ کو بتائیں گے کہ ہم اس کے اخراجات کیسے ادا کریں گے۔

ملازمتیں:

- کلین ٹیک انوویشن، اعلیٰ درجے کی مینوفیکچرنگ اور ہائیو پراڈکٹس کے لیے بزنس سپورٹ پروگراموں میں 3.1 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کے ذریعے کلین اکانومی کی راہ ہموار کرنا۔
- توانائی بچانے، بلوں میں کمی کرنے اور ملازمتیں تخلیق کرنے کے لیے 4.18 بلین ڈالر کے گرین بلڈنگ اینڈ بزنس پروگرام کے ذریعے اپنے گھروں اور کاروباروں میں بجلی کی مزید بچت کو ممکن بنانا۔
- اونٹیریو میں 400,000 چھوٹے کاروباروں کے لیے رول ٹیکسز میں کمی کرنا اور انہیں بہتر اجرت ادا کرنے اور کمیونٹی میں مزید ملازمتیں تخلیق کرنے کے لیے کیش فلو کی سہولت دینا۔

لوگ:

- تمام نئی ہاؤسنگ ڈیولپمنٹس میں 20 فیصد سستے حصے کی شرط کے ذریعے ہاؤسنگ کے شعبے کو کھولنا تا کہ ہر کوئی اپنے ذاتی گھر کا مالک بن سکے۔
- او ایچ آئی پی پلس کے تحت دماغی صحت کا احاطہ کرنے کے لیے قدم کے طور پر 4.1 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کرنا اور اپنے ہیلتھ کیئر کے نظام کو بیماریوں کی روک تھام کرنے والے نظام میں بدلنا۔
- آمدنی کی عدم مساوات اور غربت کی زندگی گزارنے والے افراد کے لیے سرخ فیتے کے مسائل سے بچنے کے لیے ایک نئے طریقہ کار کے طور پر بیسک انکم گارنٹی کا نفاذ کرنا۔

ہماری زمین:

- اونٹیریو کی بنیادی زرعی زمین اور آبی وسائل والے علاقوں کو مستقل تحفظ فراہم کرنا جس میں گرین بیلٹ کی وسعت اور ہمارے قیمتی وسائل کے استعمال سے متعلق قوانین کو مضبوط بنانا شامل ہے۔
- مہنگی نیوکلیئر بجلی سے اجتناب کرنے اور کم قیمت پن بجلی اور کمیونٹی پر مبنی قابل تجدید توانائی کے استعمال کے ذریعے 2050 تک اونٹیریو کو 100 فیصد قابل تجدید بجلی پر منتقل کرنا۔
- صاف اور اچھی طرح مربوط عوامی سفری سہولیات تعمیر کرنا اور اس کے لیے ماہرین کی سفارش کردہ سڑکوں کی لاگت
- کے طریقوں کے ذریعے پائیدار فنڈنگ سے ادائیگی کرنا جو دنیا بھر میں کامیاب ثابت ہوئے ہیں۔

<https://mikeforguelph.ca/platform>